

Surah Munafiqun Full Arabic Text With Transliteration and Translation

Bismillah

Arabic: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Transliteration: Bismillah hir rahman nir raheem

English Translation: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Urdu Translation: شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

Hindi Transliteration: बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हहीम

Ayah 1

Arabic: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Transliteration: Izaa jaaa'akal munaafiqoona qaaloo nashhadu innaka la rasoolul laah; wallaahu ya'lamu innaka la rasooluhoo wallaahu yashhadu innal munaafiqeena lakaaziboon

English Translation: When the hypocrites come to you, O Prophet, they say, "We bear witness that you are certainly the Messenger of Allah." And Allah knows that you are indeed His Messenger, and Allah bears witness that the hypocrites are surely liars.

Urdu Translation: تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔

Hindi Transliteration: इज़ा जाअकल मुनाफ़िकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुह वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून

Ayah 2

Arabic: اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Transliteration: Ittakhazoo aymaanahum junnatana fasaddoo 'an sabeelil laah; innahum saaa'a maa kaanoo ya'maloon

English Translation: They have made their oaths a shield, and so they hinder people from the way of Allah. Evil indeed is what they do.

Urdu Translation: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔

Hindi Transliteration: इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फ़सदू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून

Ayah 3

Arabic: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

Transliteration: Zaalika bi annahum aamanoo summa kafaroo fatubi'a 'alaa quloobihim fahum laa yafqahoon

English Translation: That is because they believed and then rejected faith, so their hearts were sealed and they cannot grasp the truth.

Urdu Translation: یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اب یہ نہیں سمجھتے۔

Hindi Transliteration: ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्म कफरू फ़तुबिअ अला कुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून

Ayah 4

Arabic: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ يَّحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Transliteration: Wa iza ra-aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa iny yaqooloo tasma' liqawlihim ka'annahum khushubum musannadah; yahsaboona kulla saihatin 'alaihim; humul 'aduwwu fahzarhum; qaatalahumul laahu annaa yu'fakoon

English Translation: When you see them, their outward appearance pleases you; and when they speak, you listen to their words. But they are like propped-up pieces of wood. They think every loud sound is against them. They are the enemy, so be cautious of them. May Allah condemn them! How are they turned away from the truth?

Urdu Translation: جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بھلے لگتے ہیں، اور جب وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے ہو۔ گویا کہ یہ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اللہ انہیں تباہ کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔

Hindi Transliteration: व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अज्जसामुहुम व इय्यकूलू तस्मअ लिक्वौलिहिम कअन्नहुम ख़ुशुबुम् मुसन्नदतुन यहसबूना कुल्ल सय्हतिन अलयहिम हुमुल अदुव्वु फ़हज़हुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युअफ़कून्

Ayah 5

Arabic: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

Transliteration: Wa iza qeela lahum ta'aalaw yastaghfir lakum rasoolul laahi lawwaw ru'oosahum wa ra-aytahum yasuddoona wa hum mustakbiroon

English Translation: When it is said to them, "Come, the Messenger of Allah will ask forgiveness for you," they turn away their heads and you see them walking away in arrogance.

Urdu Translation: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتے ہیں۔

Hindi Transliteration: व इज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़्फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दूना व हुम मुस्तकबिरून

Ayah 6

Arabic: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Transliteration: Sawaaa'un 'alaihim as-taghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lany yaghfiral laahu lahum; innal laaha laa yahdil qawmal faasiqeen

English Translation: It is all the same for them whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them. Allah will never forgive them. Indeed, Allah does not show the right path to the rebellious people.

Urdu Translation: ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشنے گا۔ بیشک اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔

Hindi Transliteration: सवाउन अलयहिम अस्तग़्फ़र्त लहुम अम लम तस्तग़्फ़िर लहुम लय्यग़्फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन

Ayah 7

Arabic: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

Transliteration: Humul lazeena yaqooloona laa tunfiqoo 'alaa man 'inda Rasoolil laahi hattaa yanfaddoo; wa lillaahi khazaaa'inus samaawaati wal ardi wa laakinnal munaafiqeena laa yafqahoon

English Translation: They are the ones who say, "Do not spend on those who are with the Messenger of Allah until they leave." But to Allah belong the treasures of the heavens and the earth, though the hypocrites are not aware of this.

Urdu Translation: یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔

Hindi Transliteration: हुमुल्लज़ीना यकूलूना ला तुन्फ़िकू अला मन इन्दा रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़ज्जू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस्समावाति वल अज़ि व लाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून

Ayah 8

Arabic: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Transliteration: Yaqooloona la'ir raja'naaa ilal madeenati la yukhrijannal a'azzu minhal azall; wa lillaahil 'izzatu wa li Rasoolihee wa lilmu'mineena wa laakinnal munaafiqeena laa ya'lamoon

English Translation: They say, "If we return to Madinah, the more honored will surely drive out the more humble from it." But all honor belongs to Allah, to His Messenger, and to the believers. Yet the hypocrites do not know this.

Urdu Translation: یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے ضرور نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، لیکن منافق جانتے نہیں۔

Hindi Transliteration: यकूलूना लइर रजअना इलल मदीनति लयुख़िजन्नल अअज़्जू मिन्हल अज़ल्ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल्मुअमिनीन व लाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून

Ayah 9

Arabic: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Transliteration: Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tulhikum amwaalukum wa laa awlaadukum 'an zikril laah; wa mai-yaf'al zaalika fa-ulaaa'ika humul khaasiroon

English Translation: O you who believe! Do not let your wealth or your children distract you from the remembrance of Allah. Whoever does so, they are the ones who will be at a great loss.

Urdu Translation: اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔

Hindi Transliteration: या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व ला औलादुकुम अन ज़िक़िल्लाह व मय्यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून

Ayah 10

Arabic: وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Transliteration: Wa anfiqoo mim maa razaqnaakum min qabli any-ya'tiya ahadakumul mawtu fa yaqoola rabbi law laaa akhkhartanee ilaaa ajalin qareebin fa assaddaqa wa akum minassaaliheen

English Translation: Spend from what We have provided for you before death comes to one of you and he says, "My Lord, if only You would delay me for a little while so I could give in charity and be among the righteous."

Urdu Translation: اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔

Hindi Transliteration: व अन्फिकू मिम्मा रज़क्नाकुम मिन कबलि अय्यअतिया अहदकुमुल मौतु फ़यकूल रब्बि लौला अख़र्तनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक् व अकुन मिनस्सालिहीन

Ayah 11

Arabic: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Transliteration: Wa lany yu'akhkhiral laahu nafsana iza jaaa'a ajaluhaa; wallaahu khabeerum bimaa ta'maloon

English Translation: But Allah will never delay a soul once its appointed time has come. And Allah is All-Aware of whatever you do.

Urdu Translation: اور جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔

Hindi Transliteration: व लय्युअख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम् बिमा तअमलून